

خلاصہ مصائبِ

قرآن حکیم



چودہواں پارہ

ابن حمین خدام القرآن سندھ، کراچی

## خلاصہ مضمومین قرآن

### چودھوال پارہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٠﴾ يَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
الْأَقْفَافُ تِلْكَ أَيْثُ الْكِتَبِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٤١﴾ (الحجر: ۴۰-۴۱)

### سورۃ حجر

☆ آیات کا تجزیہ :

- آیات ۲۵ تا ۳۵ ایمانیاتِ ثلاثہ توہید، آخرت، رسالت
- آیات ۳۶ تا ۴۶ قصہ آدم والیلیں
- آیات ۴۷ تا ۵۹ ایمان بالرسالت

### آیات ۱ تا ۲

#### کاش ہم بھی مسلمان ہوتے

ان آیات میں قرآن کریم کو ایک واضح کتاب قرار دینے کے بعد فرمایا کہ عنقریب کافر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آیت ۲ کی تفسیر کے حوالے سے ترمذی شریف میں کئی صحابہؓ کا یہ قول نقل ہوا کہ:

إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَدَالِّيْنَ كَفَرُوا لَوْ  
كَانُوا مُسْلِمِيْنَ

”جب توحید کا عقیدہ رکھنے والے جہنم سے نکالے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس وقت کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔“

اللہ نے نبی اکرم ﷺ کو آگہ فرمایا کہ فی الحال یہ کافر کھاپی رہے ہیں، مزے اڑا رے ہیں اور لمبے چوڑے منصوبے بنارہ ہے ہیں۔ ان کے لیے یہ چاردن کی چاندنی ہے۔ عنقریب ان کے

لیے ہمیشہ ہمیش کی اندر ہیری رات آنے والی ہے۔

### آیات ۳ تا ۸

نا فرمانوں کے لیے عذاب کا وقت طے ہے

ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا اُس کے لیے عذاب کا وقت طے خوا۔ پھر وہ عذاب کو معین وقت پر آنے سے نہ روک سکے۔ کافراں تھائی گستاخانہ انداز میں نبی اکرم ﷺ کو مجnoon قرار دے رہے ہیں اور ان سے فرشتوں کو سامنے لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس روز فرشتے اللہ نے نازل کر دیے اُس روز کافروں کے لیے اچھی خبر نہ ہوگی جیسا کہ بعد میں بد رہیں فرشتوں کا نزول ہوا اور پھر کافر ذات آمیز ہلاکت سے دوچار ہوئے۔

### آیت ۹

اللہ قرآن کی حفاظت خود کرے گا

عظیمتِ قرآن کے حوالے سے یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بڑے جلالی انداز میں اعلان فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ غیر مسلم بھی تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کا متن محفوظ ہے اور یہ وہی ہے جو حضرت محمد ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو لکھایا اور یاد کرایا تھا۔

### آیات ۱۰ تا ۱۵

ہر دور میں اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے

ان آیات میں نبی اکرم ﷺ کو ہنی طور پر تیار کیا گیا کہ آپ ﷺ کے مخاطبین کی اکثریت حق واضح ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے گی۔ ماضی میں بھی قوموں کی روشن یہی رہی ہے۔ اگر مشرکینِ مکہ کے لیے آسمان سے ایک دروازہ کھول دیا جائے اور وہ اُس کے ذریعہ آسمان پر چڑھتے رہیں، تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے بلکہ اللہ کی اس قدرت کو بھی جادو قرار دیں گے۔ لہذا نبی اکرم ﷺ کو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔

## آیت ۱۶ تا ۲۲

### اللہ کی قدرت کے شاہکار

ان آیات میں اللہ کی قدرت کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے:

- اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے جن کے ذریعہ دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو سجاوٹ اور رونق بخشی۔ یہی ستارے سرکش جنات کے حوالے سے حفاظتی چوکیاں بھی ہیں۔ اگر کوئی سرکش جن آسمان سے فرشتوں کے حوالے کیے جانے والے کسی فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اُسے مار بھاگنے کے لیے ان ستاروں سے اُس پر ایک جلتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا ہے۔
- زمین کو اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ اُس پر پہاڑوں کی صورت میں بڑے بڑے بو جھر کے بیں تاکہ زمین توازن میں رہے۔ پھر زمین پر ہر شے مخلوقات کی ضروریات کے مطابق پیدا فرمائی ہے۔
- iii. اللہ نے زمین میں تمام مخلوقات کی گزراؤقات کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی رزق کا انتظام کیا ہے جنہیں انسان نہ پالتے ہیں اور نہ ہی ان کی خوارک ضروریات کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں۔
- v. اللہ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں لیکن وہ اُسے اتنی ہی مقدار میں پیدا فرماتا ہے جتنی مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔
- vii. اللہ نے ہواویں کو بار آور بنایا یعنی ان کے دوش پر بادل مختلف علاقوں میں بر سنے کے لیے تیرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ پھر ان بادلوں سے اللہ نے پانی برسایا اور انسانوں کے کے لیے پانی کی گردش کا ایسا نظام بنایا جس سے وہ سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ سال بھر کی ضروریات کے لیے پانی جمع کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے۔

## آیات ۲۳ تا ۲۵

اللہ جانتا ہے کہ آگے بڑھنے والوں کو اور پیچے رہنے والوں کو  
ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور پھر وہی انہیں موت  
دے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ انسانوں میں سے کون اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور کون  
اس سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ آخر کار سب لوگ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور اپنے  
کیے کے مطابق بدلہ پائیں گے۔

## آیات ۲۶ تا ۳۱

### عظمتِ انسان

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو اُس سے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر  
کھنک رہا تھا۔ اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم  
دیا کہ جب میں انسان کو بنانا سنوار دوں اور اُس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب اُس کے  
سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ گویا انسان کی اصل عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ صرف خاکی وجود نہیں  
رکھتا بلکہ اُس میں روح ربیٰ بھی ہے:

ہے ذوقِ خلیل بھی اسی خاک میں پنهان  
غافل تو زاصاحب اور اک نہیں ہے

تمام کے تمام فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ البتہ ابلیس  
نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جو فرشتوں نہیں بلکہ ایک جن تھا۔

## آیات ۳۲ تا ۳۵

### اللہ کی لعنت ہے تکبر کرنے والے پر

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ابلیس نے انسان کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اُس نے کہا کہ میں  
ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے سنبھالنے ہوئے گارے سے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے  
ابلیس دفعہ ہو جا، اب تو دھنکارا ہوا ہے اور تجھ پر لعنت ہے رہتی دنیا تک۔

۳۶ آیات تا ۴۰

### ابلیس کے ناپاک عزائم

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ابلیس نے اللہ سے روزِ قیامت تک مهلتِ زندگی مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے ایک معین وقت تک مهلت دی گئی۔ اُس نے اپنی بربادی کا انعام اللہ کو دیا اور اپنے اس ناپاک عزم کا اظہار کیا کہ میں دنیا کی عارضی اور گھشیال لذتوں کو انسانوں کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو گراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ اے اللہ! تیرے خاص بندے میرے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین!

۳۷ آیات تا ۴۱

### شیطان اُسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے

ان آیات میں اللہ نے واضح فرمایا کہ میں نے بندوں کو ہدایت کی سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ میرے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ شیطان ایسے ہی لوگوں کو گراہ کرے گا جو قبیل لذتوں کی خاطر خود ہی گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کے سات دروازے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنے بدل نصیب کس دروازے سے جہنم میں گریں گے۔

۴۲ آیات تا ۴۶

### اہل جنت کی باہم کدورتیں ختم کر دی جائیں گی

ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جنت کے چشموں کے پاس لطف و سرور کی کیفیت میں ہوں گے۔ اگر دنیا میں اُن کے دلوں میں باہم کوئی کدورت پیدا ہوئی تھی تو ختم کر دی جائے گی۔ وہ بڑی محبت سے بھائیوں کی طرح ٹیک لگا کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کی راحتوں کے مزے لوٹیں گے۔

۴۷ آیات تا ۵۱

### اللہ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے

ان آیات میں فرمایا کہ اللہ بندوں کو معاف کرنے والا اور ان پر حرم کرنے والا ہے لیکن

نافرمانوں کو درنَا ک عذاب بھی دینے والا ہے۔ اُس کی ان دونوں شانوں کا مظہر ہے کہ اُس نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ حضرت ابراہیمؑ کو اپنی رحمت کی بشارت ایک بیٹے کی پیدائش کے حوالے سے دی اور پھر انہی فرشتوں کے ذریعہ حضرت لوٹؑ کی نافرمانی یہوی اور سرکش قوم پر بدترین عذاب نازل فرمایا۔

## آیات ۶۱ تا ۷۷

### قومِ لوٹ پر اللہ کا عذاب

إن آيات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوٹ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ قوم جو ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی دیوانہ وار حضرت لوٹ کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تاکہ فرشتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناسکے۔ حضرت لوٹ نے قوم کو سمجھایا کہ قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر کے جائز طریقہ پر جنسی خواہش کی تسکین کرو۔ قوم نے حضرت لوٹ کی بات کو حقارت سے رد کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت لوٹ سے فرمایا کہ آپ رات کے پچھلے پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس بستی سے نکل جائیں۔ البتہ آپ کی بیوی نہ نکل سکے گی۔ اس کے بعد اس بستی کو والٹ دیا گیا اور قوم پر نکلریوں کی بارش نازل کی گئی۔ مکہ والوں کو یاد ہانی کرائی گئی کہ قوم لوٹ کی تباہ شدہ بستی اُس سیدھی شاہراہ پر ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتی ہے۔ اس بستی کو دیکھو اور اس کی بر بادی سے سبق حاصل کرو۔

## آیات ۷۸ تا ۹۷

### القوم شعیب کا انجام

إن آيات میں بیان کیا گیا کہ حضرت شعیبؑ کی قوم بھی ظالم تھی یعنی تباہ شدہ نے والی تھی۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں برباد کر دیا۔ اس قوم کی آبادی کے گھنڈرات اور قومِ لوٹ کی تباہ شدہ بستی اُس سیدھی شاہراہ پر ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتی ہے۔ مکہ والوں کو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

## آیات ۸۰ تا ۸۳

### قوم شمود کی تباہی

ان آیات میں قوم شمود کی ناشکری اور پھر تباہی کا ذکر ہے۔ انہیں اللہ نے ایسی شیکنا لو جی دی تھی کہ وہ بڑے آرام سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے اس احسان کی ناقدری کی اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ نے ایک زلزلہ کے ذریعہ اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔

## آیات ۹۹ تا ۹۶

### نبی اکرم ﷺ سے خصوصی خطاب

ان آیات میں نبی اکرم ﷺ کی دلجوئی کا مضمون ہے۔ آپ ﷺ سے فرمایا گیا:

i- اللہ نے کائنات کی ہرشے با مقصد بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے امتحان۔ اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ آپ ﷺ کافروں کے ظلم و ستم کو صبرِ جمیل سے برداشت کریں۔ آخرت میں آپ ﷺ کو بھر پورا جر اور کافروں کو بدترین سزا مل کر رہے گی۔

ii- آپ ﷺ کا رب خالق ہے اور مخلوق کے ہر حال اور کیفیت سے واقف ہے۔ آپ ﷺ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ ﷺ کے دل پر کیا بیت رہی ہے اُسے سب علم ہے۔

iii- اللہ نے آپ ﷺ کو سورہ فاتحہ کی سات مبارک آیات عطا کی ہیں جو بار بار دھرانے اور اللہ سے لوگانے اور تسلیم کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

iv- کافروں کو جو ساز و سامان ہم نے دیا ہے آپ ﷺ ان سے مرعوب نہ ہوں اور نہ ہی ان کے برے انجام کی فکر کر کے غمگین ہوں۔

v- آپ ﷺ کی توجہ اور عنایات کا رخ اپنے درویش ساتھیوں کی طرف رہے۔ کافر قرآن کریم کے حصے بخیرے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی حمد و شاء کا ذکر انہیں قبول ہے لیکن معبدوں ان باطل کی نفی کے مضامین کو قرآن سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان سے

اس روشن کی باز پرس کر کے رہے گا۔

vii- نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ اب علی الاعلان لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت پیش کریں۔ مذاق اڑانے والے مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ خود ہی اُن سے نہت لے گا۔

viii- اے نبی! اللہ جانتا ہے کہ ان مخالفین کے طنز آپ کے مبارک سینہ میں تیر کی طرح پیوست ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ برداشت کیجیے اور اللہ کی حمد، شیخ اور اُس کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعہ دل کو سکون دیجیے۔ اپنے رب کی بندگی پر زندگی کے آخری سانس تک کار بند رہیے۔

## سورہ نحل

☆ آیات کا تجزیہ :

اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ۱۸۴ آیات اتا

مشرکینِ مکہ کے ساتھ کشمکش ۱۹۶ آیات اتا

اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ۲۵۸ آیات اتا

ایمان بالآخرت ۸۲۸ آیات اتا

اہم ہدایات ربانی ۹۰ آیات اتا

مشرکینِ مکہ کے ساتھ کشمکش ۱۰۱ آیات اتا

حلال و حرام کی بحث ۱۱۲ آیات اتا

عظمتِ ابرہیم ۱۲۰ آیات اتا

صبر و استقامت کی تلقین ۱۲۵ آیات اتا

## آیات اقا ۲

مشرکین کے لیے دلوں کی اعلان

ان آیات میں مشرکینِ مکہ کو خبر دار کر دیا گیا کہ تم جس عذاب کے حوالے سے جلدی مچا رہے ہو وہ

آنے والا ہے۔ یہ دراصل بدر کے معرکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ واضح کر دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔

### آیات ۳ تا ۶

#### اللہ کی تخلیق کے تین شاہکار

ان آیات میں فرمایا کہ اللہ ہی نے بنایا ہے تمام آسمانوں، زمین اور انسانوں کو۔ اُس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ انسان کی تخلیق گندے پانی کی بوند سے ہوئی ہے لیکن انسان اپنے آغاز کو بھول گیا اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے بہت زیادہ ہی اعتراضات کرتا ہے۔

### آیات ۵ تا ۹

#### چوپائے اللہ کی لتنی بڑی نعمت ہیں!

ان آیات میں چوپایوں کے حوالے سے اللہ کے بندوں پر مندرجہ ذیل احسانات بیان کیے گئے ہیں:

- چوپایوں کی کھال میں انسان کے لیے سرد موسم کی شدت سے بچنے کے لیے حرارت حاصل کرنے کی خصوصیات ہیں۔ ان سے گرم لباس اور کمل وغیرہ بنتے ہیں۔
- چوپایوں میں سے جو حلال ہیں اُن کی کھال، ہڈیاں، چربی اور کھاد انسان کے لیے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔
- حلال جانوروں کا گوشت انسان کے لیے بہترین اور لذیذ خوراک ہے۔
- مال مویشی رکھنے والے صبح کے وقت جب جانوروں کو چرانے لے جاتے ہیں اور جب شام کو واپس لاتے ہیں تو ان کے لیے اس میں ایک بڑی شان و شوکت کا پہلو ہوتا ہے۔
- جانوروں میں سے جو حمل بردار ہیں وہ انسانوں کا ساز و سامان دور دراز اور بلند مقامات تک لے جاتے ہیں۔ اُن کے بغیر یہ کام انسان کے لیے بڑا مشقت والا ہوتا۔
- گھوٹے، خچر اور گلدھے انسان کی سواری کے کام آتے ہیں اور اُن سے انسان کی شان و

شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ان نعمتوں کے احساس سے انسان کے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات ابھرنے چاہئیں لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری کا ٹیڑھار است اختیار کرتی ہے۔

### آیات ۱۰ تا ۱۱

#### پانی کی برکات

ان آیات میں پانی کی تین برکات کا بیان ہے:

- پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے اور اُس کی کئی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
- ii- پانی کے ذریعہ چارہ، گھانس اور پتے پیدا ہوتے ہیں، جو جانوروں کے لیے خوارک بنتے ہیں۔
- iii- پانی کے ذریعہ طرح طرح کی کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور، کئی قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں۔

### آیت ۱۲

#### جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے نہیں

اس آیت میں قدرت کے پانچ مظاہر بیان ہوئے ہیں جو سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ رات آرام کے لیے ہے۔ دن بھاگ دوڑ اور کام کا ج کے لیے ہے۔ سورج روشنی، حرارت، تو انماں کی فراہمی، دن اور سال کا حساب لگانے اور دیگر کئی خدمات، بجالانے کا ذریعہ ہے۔ چاند رات میں روشنی اور مہینوں کا حساب فراہم کرتا ہے۔ ستارے سمتوں کے تعین کے لیے کارآمد ہیں۔ بلاشبہ اللہ نے یہ جہاں انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

### آیت ۱۳

#### کائنات کی زینت رنگارنگی سے ہے

اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اُس کے رنگ مختلف ہیں۔ اس رنگارنگی ہی سے کائنات میں رونق اور خوبصورتی ہے۔ بقول شاعر

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونقِ چن  
اے ذوقِ اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

### آیت ۱۳

انسانوں کے لیے سمندر کی برکات

اس آیت میں سمندر سے حاصل ہونے والی برکات کا ذکر ہے:

i- سمندر سے انسانوں کے لیے مجھلیوں کی صورت میں تازہ اور صحیح افزاگوشت حاصل ہوتا ہے۔

ii- سمندروں میں وہ موئی اور موئگے پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان بطور زیورات کے استعمال کرتا ہے۔

iii- سمندر میں وہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں جن سے بڑے پیانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔

### آیات ۱۴ تا ۱۶

زمین پر مظاہر قدرت

زمین پر اللہ نے انتہائی وزنی پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین توازن میں رہے۔ اسی زمین میں اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں تاکہ انسان کو ذاتی استعمال اور زراعت کے لیے پانی میسر آسکے۔ زمین پر قدرتی راستے بنادیے ہیں تاکہ منزلوں پر پہنچنے میں سہولت ہو۔ دوران سفر رہنمائی کے لیے ستارے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان اپنی منزل پر پہنچ سکے۔

### آیت ۱۷

خالق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا!

اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے تو کائنات میں بے شمار مظاہر تخلیق کیے ہیں جن میں سے ہر ایک اللہ کی قدرت کا انوکھا شاہکار ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ کیا کوئی اور اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ غور تو کرو!

## آیات ۱۸ تا ۱۹

تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے

ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر کوئی گناہ چاہے تو کبھی بھی گن نہیں سکتا۔  
لوگ اللہ کے احسانات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی شکر کے ذریعہ ان کا اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ  
کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں؟

## آیات ۲۰ تا ۲۳

اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ

ان آیات میں فرمایا کہ جن نیک انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد لوگ پکارتے ہیں اور ان  
سے دعا نہیں کرتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ مرنے  
کے بعد انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ جو لوگ آخرت میں اللہ  
کے سامنے جوابدہ کے لیے تیار نہیں کر رہے وہی اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے  
بزرگان دین کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کی سفارش کے ذریعہ خود کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ کر لیں۔  
ایسے لوگ آج تکبر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا  
ظاہر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں؟ ان کا انجام براہے۔

## آیات ۲۴ تا ۲۵

گمراہی پھیلانا گناہ جاری ہے

ان آیات میں فرمایا کہ جب مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ پر کیا نازل ہو رہا  
ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پچھلوں کے قصے اور کہانیاں! ایسی گمراہی پھیلا کر وہ خود بھی گناہ سمیٹ رہے  
ہیں اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا دبال بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ بہت برا بوجھ ہے جو وہ  
اٹھا رہے ہیں۔

## آیات ۲۶ تا ۲۷

### اللہ کا ایسا عذاب جس کا گمان تک نہ تھا

ان آیات میں فرمایا کہ ماضی میں کئی قوموں نے اللہ کے رسولوں کے خلاف مکروہ فریب اور سازشیں کیں۔ ان مجرموں پر اللہ کا عذاب ایسی صورت میں آیا کہ انہیں گمان تک نہ تھا۔ اللہ نے ان کی عمارت کی وہ مضبوط بنیادیں ہلا دیں جن پر انہیں بڑا اعتماد تھا۔ پھر وہ چھتیں جنمیں سائی فراہم کرنے کیے لیے بنایا تھا ان پر گر گئیں اور ان کی بر بادی کا سبب بن گئیں۔ یہ دنیا کا عذاب تھا۔ روزِ قیامت اللہ انہیں ذلیل کرے گا اور اُس روز علم حقیقت جانے والے پکاراٹھیں گے کہ آج کے دن اصل رسوائی اور لعنت حق کے دشمنوں پر چھائی ہوئی ہے۔

## آیات ۲۸ تا ۲۹

### قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے

ان آیات میں نافرمانوں پر موت کی سختیوں کا ذکر ہے۔ وہ موت کے وقت جان نکالنے والے فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ سرکشی اور برائی کرنے والوں کا بہت براٹھکانہ ہے۔

## آیات ۳۰ تا ۳۱

### سب سے بڑی خیر اللہ کی کتاب قرآنِ کریم

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب پرہیز گاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بڑی بھلائی نازل کی ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے دنیا میں سکون و راحت کی زندگی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ جہاں انہیں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔

## ۳۲ آیت

قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے  
اس آیت میں پاکیزہ لوگوں کی موت کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ فرشتے عالمِ نزاع کے وقت  
انہیں سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ انہیں آگاہ کرتے  
ہیں کہ یہ انعامِ اُن کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ بقولِ اقبال:

جنت تیری پہاں ہے تیرے خونِ جگر میں  
اے پیکر گل! کوششِ پیغم کی جزا دیکھ

## ۳۳ آیات

نا فرمانوں کو کس بات کا انتظار ہے؟

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے برے لوگوں کے بدترین انجام اور نیک لوگوں کے حسین  
انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی کرنے والے آخر قوبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ  
اُس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو اللہ فرشتوں کے ذریعہ نازل کر دے یا پھر موت کا۔ ماضی  
میں بھی مجرموں کی بھی روشنی۔ آخر کار اُن پروہ عذاب آ کر رہا ہے وہ مذاقِ سمجھ رہے تھے۔

## ۳۵ آیت

شُرُكَ كَ لِيْلَ خُوشَمَا جَواز

اس آیت میں مشرکین کی طرف سے شرک کے حق میں ایک خوشنما جواز کا ذکر ہے۔ مشرکین  
کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک کرنے اور حلال و حرام کے خود ساختہ فیصلے کرنے سے  
روک دیتا۔ اُس کا نہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا طرزِ عملِ اللہ کی طرف سے منظور شدہ  
ہے۔ جواب دیا گیا کہ شرک کے حق میں اس طرح کے جواز ماضی میں بھی گمراہ لوگ پیش  
کرتے رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا  
ہے۔ نیکی کے عمل میں اللہ کا اذن اور رضا و نوں شامل ہوتے ہیں۔ برائی کے عمل میں اللہ کا  
اذن تو ہوتا ہے لیکن اُس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ رسولوں کا کام حق کو واضح کرنا ہے

لوگوں کو زبردستی حق کی راہ پر لا نانہیں ہے۔

### آیات ۳۶ تا ۳۷

**رسولوں کی دعوت ..... اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت**

ان آیات میں فرمایا کہ تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی بنگی اور اپنی حاکیت قائم کرنے والے سرکشوں کے خلاف بغاوت کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے یہ دعوت قول کی اور اکثر نے ٹھکرایا۔ رسولوں کی خواہش تو یہ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں لیکن اللہ کی سنت ہے کہ جو گمراہی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔

### آیات ۳۸ تا ۴۰

**اللہ جھوٹوں کو گھر تک پہنچائے گا**

ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ کفار فتنمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے لیکن اللہ ایسا ضرور کرے گا۔ اس طرح ثابت ہو جائے گا کہ کافر جھوٹے ہیں اور پھر انہیں اُن کی بد اعمالیوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ صرف کلمہ کن کہے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔

### آیات ۴۱ تا ۴۲

**اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت**

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی دنیا کی کمائی گھر اور اثاثاً چھوڑ کر صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی اور محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کی۔

### آیات ۴۳ تا ۴۴

**حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے**

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنانے کر

بھیجا تاکہ وہ اُن کے لیے قابل عمل نمونہ بن سکیں۔ نبی اکرم ﷺ پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور انہیں یہ ذمہ داری تفویض کی کہ وہ قرآن کے احکامات و مضمایں کو لوگوں کے لیے واضح کریں۔ بلاشبہ قرآن پر عمل اللہ کے رسول ﷺ کے ارشادات و تشریحات کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں انکارِ حدیث کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

## آیات ۲۵ تا ۲۷

### اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو

ان آیات میں فرمایا کہ کیا اللہ کے احکامات توڑنے والے اس بات سے امن میں ہیں کہ اچا نک انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے یا اُن پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو۔ یہ عذاب اُن پر اچا نک بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اس کے آثار ظاہر ہوں اور پھر وہ سر پر آ جائے۔ بہر حال اللہ کی پکڑ سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے اور عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

## آیات ۲۸ تا ۵۰

### ہر شے، ہی نہیں اُس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے

ان آیات میں فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پھر ہر شے کا سایہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ خاص طور پر فرشتے بھی اللہ کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ ہر آن اُس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اُس کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔

## آیات ۵۱ تا ۵۲

### دو معبود نہ بناؤ

اس آیت میں فرمایا کہ اکثر انسان دو معبود رکھتے ہیں۔ اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں لیکن وہ کسی اور شے کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سواد گیر معبودوں میں خواہشاتِ نفس، بیوی، بچے، مال و دولت، وطن، قوم، اولیاء اللہ، خود ساختہ تصویرات وغیرہ شامل ہیں۔ توحید خالص یہ ہے کہ صرف اللہ کو محبوب و مطلوب بنایا جائے، اُس کی مستقل اطاعت کی جائے اور اُس کی نافرمانی

کی ہر صورت سے بچا جائے۔

## آیات ۵۳ تا ۵۶

ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کر دہ ہے

ان آیات میں فرمایا کہ انسان کو ہر نعمت اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ انسان کی ہر تکلیف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ انسان کی ناشکری کا یہ عالم ہے کہ وہ نعمتوں کو اور بتکالیف کی دوڑی کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایسے لوگ ناشکری کرتے رہیں عنقریب اس روشن کی سزا پا کر رہیں گے۔ ایسے لوگ اللہ کے عطا کردہ رزق کو دوسروں کے نام پر نذر و نیاز کر کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہیں اللہ کے سامنے اس نا انصافی کی جوابد ہی کرنا ہوگی۔

## آیات ۵۷ تا ۶۰

مشرکینِ مکہ کی بے انصافی

ان آیات میں مشرکینِ مکہ کی بے انصافی کا ذکر ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے لیکن اگر اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو شدید صدمے سے دوچار ہوتے۔ اُسے اپنے لیے باعث شرم سمجھتے، لوگوں سے منه چھپاتے اور بعض اوقات اُسے زندہ فن کر دیتے تھے۔ ایسے لوگ آخرت میں کپڑ پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا عنقریب براحال ہونے والا ہے۔ مستقل ذلت و رسوانی ان کا مقدر بنے گی۔ اس کے برعکس اللہ کی شان ہمیشہ سے اوپنی ہے اور اوپنی ہی رہے گی۔

## آیت ۶۱

اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے

اس آیت میں فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مُستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اصلاح کے لیے مهلت دیتا ہے۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے طشدہ مهلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ظالموں کو اللہ کی کپڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ انسانوں کی گناہوں پر فوری کپڑ کر لے تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ انسانوں کے علاوہ دیگر جاندار تو ہیں ہی انسانوں کی خدمت کے لیے۔ انسان مٹ جاتے تو پھر ان کی بھی ضرورت نہ رہتی۔

## ۶۳ تا ۶۲ آیات

### سو سو گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر

ان آیات میں فرمایا کہ شیطان انسان کو اللہ کی رحمت کی امید دلا کر گناہوں پر اکساتار ہتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور پھر بھی گمان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے حمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ایسے بدجختوں کے لیے رحمت نہیں جہنم کی آگ ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر ان کی رسی دراز کی جاری ہی ہے تاکہ اپنے نامہ اعمال کو خوب سیاہ کر لیں۔

## ۶۲ آیت

### قرآن کی فصلہ کن وضاحت ..... حدیث نبوی ﷺ

اس آیت میں قرآن و حدیث کے باہمی تعلق کو واضح کیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ کو آگاہ کیا گیا کہ یہ کتاب آپ ﷺ پر نازل کی گئی ہے اور یہ آپ ﷺ کی ذمہ داری ہے کہ جس آیت کے حوالے سے لوگ اختلاف کریں آپ ﷺ اپنے ارشادات کے ذریعہ اُس کی وضاحت فرمادیں۔ بلاشبہ یہ قرآن اہلِ ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت ہے اور اس کے مضامین کی وضاحت اہلِ ایمان کے لیے ضروری ہے۔

## ۶۵ تا ۶۹ آیات

### اللہ کی نعمت چار مشروبات کی صورت میں

ان آیات میں چار مشروبات کا ذکر ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں:

- i- پانی جسے اللہ بارش کی صورت میں برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔
- ii- خالص دودھ جسے اللہ جانوروں کے گبور اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے اور جو بھر پور غذائیت اور لذت کا پیکر ہے۔

- iii- کھجوروں اور انگوروں سے حاصل ہونے والا پاکیزہ مشروب یعنی رس۔ ان بچلوں سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے لیکن وہ حرام ہے۔

۷۰۔ شہد کی مکھی کے بطن سے خارج ہونے والا شہد جس کے ذائقہ اور رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس میں انسانوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا رس چوتھی ہے اور پھر اسے شہد جیسے مفید مشروب میں تبدیل کر دیتی ہے۔

## آیت ۷۰

### انسان کی بے بُسی

اس آیت میں انسان کی بے بُسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ اللہ ہی اُسے پیدا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ بعض انسان عمر کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہنی طور پر حاصل کردہ علم بھول جاتے ہیں اور جسمانی طور پر دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو علمِ کامل رکھتا ہے اور ہر اعتبار سے قادرِ مطلق ہے۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ:

لائی حیات آئے ، قضاۓ چلی چلے  
اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے

## آیت ۷۱

### شرک کی نفی ایک واضح مثال سے

اس آیت میں پوچھا گیا کہ کیا کوئی آقا اپنا آدم حمال اپنے غلام کو دے کر اُسے اپنے برابر کی مالی حیثیت دیتا ہے؟ جب انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اُس کا غلام اُس کے برابر ہو جائے تو کیسے ممکن ہے خالق اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا شریک بنالے؟

## آیات ۷۲ تا ۷۴

### اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری

إن آیات میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بیوی کی صورت میں سکون حاصل کرنے کی نعمت دی۔ پھر بیوی کے ذریعہ بیٹے اور پوتے جیسی نعمتوں عطا کیں۔ پھر انہائی پاکیزہ رزق عنایت فرمایا۔ لیکن انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو شریک کرتا ہے جو

انسان کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں۔ پھر انسان اپنے شرک کے جواز کے لیے اللہ کے بارے میں ایسی مثالیں دیتا ہے جیسے دنیا کے لاچار بادشاہوں کی ہوتی ہیں۔ بلاشبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔

## آیات ۲۵ تا ۲۷

### دوبیغ مثالیں

ان آیات میں حق کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی گئی ہیں:

- پہلی مثال عبد اور معبد کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ ایک شخص کسی کاغلام ہے۔ اُس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ دوسرا شخص آزاد ہے اور جسے اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے مال خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک لاچار و عاجز عبد کبھی بھی مختار و مطلق معبد یعنی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔
- ii دوسری مثال نافرمان اور فرمانبردار انسان کی ہے۔ فرض کیجیے کسی شخص کے دو غلام ہیں۔ ایک انتہائی نااہل ہے اور کام کانہ کا ج کا بلکہ دشمن اناج کا ہے۔ دوسرا انتہائی باصلاحیت ہے۔ خود بھی اچھا کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی حکیمانہ و عادلانہ رہنمائی دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح اللہ کے نافرمان اور فرمانبردار بندے برابر نہیں ہو سکتے۔

## آیات ۲۷ تا ۳۸

### اللہ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں

ان آیات میں اللہ کی بے مثال قدرتوں اور نعمتوں کا بیان ہے:

- i اللہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام رازوں سے واقف ہے۔
- ii اللہ قیامت اتنی دیر میں برپا کر دے گا جتنی دیر میں نگاہ ایک طرف سے دوسری طرف پھر جاتی ہے۔
- iii اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اب اللہ انسان کو سماعت، بصارت اور عقل دیتا ہے جن کے ذریعہ انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے۔

- vii۔ اللہ ہی ہے جو پرندوں کو فضائیں تھا مے رکھتا ہے۔
- viii۔ اللہ نے گھروں کو انسانوں کے لیے جائے سکون بنایا۔
- ix۔ اللہ نے انسانوں کو جانوروں کی کھالوں سے خیسے بنانا سکھائے جن سے انسان سفر کے دوران آسانی سے کہیں بھی قیام کا انتظام کر لیتا ہے۔
- x۔ جانوروں کی کھالوں سے انسان کئی ضروریات زندگی (جو تے، گرم لباس، بیگ) اور سامان آرائش (قالین) تیار کرتا ہے۔
- xi۔ اللہ نے اشیاء کے سامنے انسان کو گرمی کی شدت اور دھوپ کی تمازت سے بچانے اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بنائے۔
- xii۔ اللہ نے انسانوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے لیے پہاڑوں میں غار بنائے۔
- xiii۔ اللہ نے انسانوں کو ایسے لباس بنانا سکھائے جو اسے گرمی کی شدت اور جنگ کے دوران ہتھیاروں کے وار سے محفوظ رکھتے ہیں۔
- افسوس ہے انسانوں پر کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہنچانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک اور نافرمانی سے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔

## آیات ۸۳ تا ۸۵

### امت کے خلاف رسولوں کی گواہی

ان آیات میں فرمایا کہ روز قیامت ہر رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا یعنی وہ کہے گا کہ میں نے ان تک دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا اب انہوں نے اگر عمل نہیں کیا تو یہ خود ذمہ دار ہیں۔ اب نافرمانوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی رحم کی اپیل کر سکیں۔ عذاب اُن کا مقدر ہوگا جس میں نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی کوئی وقفہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

## آیات ۸۶ تا ۸۸

جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوادینے لگے

ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ شرک کرنے والے روزِ قیامت جب اُن اولیاء اللہ کو دیکھیں گے جن سے دعائیں کرتے تھے تو کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہیں ہمارے شرکاء جن سے ہم دعا کیں مانگا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ ان مجرموں کے جرم سے اعلان براءت کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و بے بُسی کا اظہار کریں گے۔ اب شرک کرنے والوں کو ایسے عذاب سے دوچار ہونا ہو گا جو مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ گویا شرک کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گا:

باغبان نے آگ دی، جب آشیانے میں مرے

جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

## آیت ۸۹

نبی اکرم ﷺ کی امت کے خلاف گواہی

اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہر امت کے خلاف اُس کے نبی گواہی دیں گے اور نبی اکرم ﷺ اپنی امت کے خلاف سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے امت تک اللہ کی وہ کتاب پہنچا دی جس میں ہربات کی وضاحت، رہنمائی، سامانِ رحمت اور بشارت ہے۔ اگر اب بھی امت میں سے جو بد نصیب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ان کے خلاف نبی اکرم ﷺ کی گواہی فیصلہ کن ہو گی۔ ایسے لوگ واقعی عذاب کے مستحق ہیں۔

## آیت ۹۰

اللہ کی پسند اور ناپسند

اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تین باتوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کا حکم دیتا ہے یعنی عدل کرنے کا، عدل سے بڑھ کر احسان کرنے کا اور قربات داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ اللہ تین باتوں کو ناپسند فرماتا ہے اور ان سے روکتا ہے یعنی بے حیائی، ہر طرح کی برائی اور زیادتی سے۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگ انہیں ہر وقت یاد رکھیں۔

## آیات ۹۲ تا ۹۳

### معاہدات کی پاسداری کا حکم

ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کسی بھی گروہ سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کریں۔ تمہارے ہر معاہدے پر اللہ گواہ ہوتا ہے۔ کسی گروہ سے معاہدہ کر کے پھر اُس کی جاسوسی یا اندرخانہ اُس کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بد دینی سے لوگ اسلام سے تنفر ہو جائیں اور تمہیں اسلام کی اس غلط نمائندگی کی وجہ سے بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ روزِ قیامت تمہارے طرزِ عمل کے بارے میں باز پرس ہو گی۔ اُس روز کی رسائی سے بچنے کی کوشش کرو۔

## آیات ۹۴ تا ۹۵

### عارضی مفادات کے تحت معاہدات کا سودا نہ کرو

ان آیات میں فرمایا گیا کہ عارضی اور وقتِ فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کی خلاف ورزی نہ کرو۔ دنیا میں جو قیمت ملے گی وہ عارضی اور گھٹیا ہے جبکہ عہد کی پاسداری پر اللہ سے ملے والا اجر دائمی اور بہتر ہے۔

## آیت ۹۶

### پا کیزہ زندگی ..... اللہ کا انعام

اس آیت میں فرمایا کہ جو فرد خواہ ہو یا عورت خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرے گا اللہ اسے ایک پرسکون پا کیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایسی زندگی جس میں اُس کا ضمیر مطمئن ہو گا کہ میرا دامن اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہے۔ ایسی زندگی کے ساتھ انسان اطمینان کے ساتھ موت کو گلے لگانے کو تیار ہو گا کیونکہ اُس نے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رکھی ہو گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی پا کیزہ زندگی عطا فرمائے اور حافظ شیرازیؒ کی طرح ہم بھی کہہ سکیں:

حاصل عمر ثارِ رہ یارے کردم  
شادم از زندگی خویش کہ کارے کر دم

”میں نے اپنی زندگی کا کل سرمایہ محبوب کی راہ میں نچھا ور کر دیا۔ میں خوش ہوں اپنی بیتی ہوئی زندگی پر کہ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا“۔

### آیات ۹۸ تا ۱۰۰

#### شیطان کا وارکس پر کارگر ہوتا ہے

ان آیات میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو آغاز میں اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہو۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ البتہ جن کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے اور وہ احکامات شریعت سے گریز کے لیے کوئی جواز تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہی شیطان کے جال میں چھنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین!

### آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵

#### قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب

ان آیات میں قرآن حکیم پر دو اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ مخالفین کو اس بات پر اعتراض تھا کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو اس کی آیات منسوخ کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا اللہ کے احکامات میں کی رہ جاتی ہے کہ اللہ کو پھر تبدیل شدہ حکم نازل کرنا پڑتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نہیں بلکہ معاذ اللہ محمد کا خود ساختہ کلام ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کلام کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیلؑ نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سہولت کے لیے پہلے ایک ایسا حکم دیتا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ بعد میں جب بندے ایک درجہ میں اُس پر عمل کے عادی ہو جاتے ہیں تو اب حصی حکم نازل فرماتا ہے۔ آیات کی منسوخی اللہ کی کمزوری نہیں بلکہ بندوں کے لیے سہولت اور بتدریج عمل میں ترقی کی غاطر ہے۔

دوسرے اعتراض مخالفین کا ایک بہتان کی صورت میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک غلام حضرت محمد ﷺ کو اس کلام کی املا کرتا ہے۔ جس غلام کی طرف اشارہ کرتے تھے اُس کی زبان عجمی

تھی۔ جواب دیا گیا کہ آخرت میں جوابدی کا یقین نہ رکھنے والے ہی ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

## آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹

### مرتد کی مذمت

ان آیات میں فرمایا کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو گا اور وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان لوگوں نے دنیا کی عارضی لذتوں کو ترجیح دی اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا۔ اب اللہ ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دے گا اور یہ حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیے جائیں۔ ایسے ہی لوگ آخرت میں بدترین خسارے میں ہوں گے۔ البتہ اگر کوئی مجبوراً جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے لیکن اُس کے دل میں ایمان ہو تو اللہ بخششے والا اور حرم کرنے والا ہے۔

## آیت ۱۱۰

### ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

اس آیت میں اُن باہمیت صحابہ کرامؓ کی تحسین کی گئی جنہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور پھر اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ البتہ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہجرت کے بعد مشکلات کا دور ختم ہو گیا۔ اب تو اللہ کی راہ میں جنگ کا حکم آئے گا اور تمہیں نقدِ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو گا :

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

جس نے جنگ کے مراحل میں ثابت قدمی اور جراءت و بہادری کا مظاہرہ کیا اُن کے لیے اللہ کی بخشش اور رحمتوں کی بشارت ہے۔

## آیت ۱۱۱

**روزِ قیامت ہر اک کو اپنی پڑی ہوگی**

اس آیت میں فرمایا کہ روزِ قیامت ہر انسان کو صرف اپنی شخص کی فکر لاحق ہوگی۔ وہ خود کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنا دفاع کرے گا۔ پھر ہر شخص کو اُس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ناقصانی نہیں کی جائے گی۔

## آیات ۱۱۲ تا ۱۱۳

**قرآن میں پاکستان کا ذکر**

ان آیات میں تاویلِ خاص کے اعتبار سے شہرِ مکہ کا ذکر ہے۔ یہ شہرِ مکہ کا گھوارہ تھا اور یہاں رزق کی فراہمی تھی۔ اس شہر میں بنے والی اکثریت نے نبی اکرم ﷺ کی دعوت کو ٹھکرا کر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اب اللہ نے اُن پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ تاویلِ عام کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت پاکستان کے حالات کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ پاکستان میں اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا لیکن ہم نے اس دھرتی پر اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان کے ذریعہ جھکا دیا لیکن ہم نے پھر بھی اپنی اصلاح نہ کی۔ آج پاکستان میں مہنگائی کا سیالاب آچکا ہے۔ معاشی اعتبار سے ہم دن بدن بدترین سطح پر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھوک کا عذاب ہے۔ پھر اندر وہی و پیروں خطرات کا اندیشہ خوف کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی اور انفرادی و اجتماعی سطح پر احکاماتِ شریعت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

## آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵

**حلال و حرام رزق کے حوالے سے ہدایت**

ان آیات میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا عطا کردہ حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھانا چاہیے۔ اس رزق سے استفادہ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو تو انائی حاصل ہوئی اُسے اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے۔ اللہ نے مردار، خون، خزیر کا گوشت اور ایسا کھانا حرام کر دیا ہے جسے اللہ کے سوا کسی

اور کے نام پر نذر کیا گیا ہو۔ البتہ جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کھانے پر کوئی گناہ نہیں۔ کسی شے کو بغیر دلیل کے حلال یا حرام قرار دینا درست نہیں۔ جو لوگ بلا دلیل اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام قرار دیں گے یا حرام کو حلال کہیں گے وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں فلاح نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے درنماک عذاب ہے۔

**آیات ۱۱۹ تا ۱۲۰**

### یہودیوں کے لیے سزا

ان آیات میں بیان کیا گیا کہ یہودیوں پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جن کا ذکر سورہ انعام آیت ۱۳۶ میں کیا جا پکا ہے۔ البتہ ان میں سے اب بھی اگر کوئی اپنی غلط روش پر نادم ہو کر توبہ کرے تو اللہ بہت بخشنے والا اور حرم کرنے والا ہے۔

**آیات ۱۲۱ تا ۱۲۳**

### حضرت ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے

ان آیات میں حضرت ابراہیم کی عظمت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ وہ اپنی ذات میں اللہ کی ایک فرمانبردار امت کا درجہ رکھتے تھے۔ اللہ کا ہر حکم مانے والے اور اُس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے۔ انہوں نے کسی بھی اعتبار سے کسی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر نہیں کیا۔ گویا ہر طرح کے شرک سے محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور وہ آخرت میں بھی عظیم مقام پر فائز ہوں گے۔ نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی حضرت ابراہیمؑ کے اُسوہ کی پیروی کریں اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیں۔

**آیت ۱۲۴**

### اللہ کے نزدیک افضل دن جمعہ کا ہے سبت کا نہیں

اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سبت کا نہیں بلکہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ البتہ یہود نے جب جمعہ کے دن کے حوالے سے اختلاف کیا تو اللہ نے ان کے لیے سبت کا دن مقرر کر دیا تاکہ وہ اُس دن کو اللہ کی یاد میں بس کریں۔ ان کے پیدا کردہ اختلاف کا فیصلہ روز

پارہ نمبر ۱۷  
قیامت کر دیا جائے گا۔

## آیت ۱۲۵

### دعوتِ دین کی تین سطحیں

اس آیت میں بیان کیا گیا کہ دعوتِ دین کی تین سطحیں ہیں:

i- معاشرے کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو حکمت یعنی دلائل کے ساتھ اللہ کی راہ کی طرف بلا یا جائے۔

ii- عوامِ الناس کو درد بھرے و غلط و نصیحت سے احکاماتِ الٰہی بجا لانے پر متوجہ کیا جائے۔

iii- فتنہ اٹھانے والے عناصر سے عمدگی اور شاستگی سے بحث کی جائے اور ان کے اٹھائے گئے فتنوں کا جواب دیا جائے تاکہ سادہ لوح لوگ ان فتنوں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔

اگر قرآن حکیم کو ذریعہ تبلیغ بنایا جائے تو ان تینوں سطحوں پر دعوت کے لیے موافر اہم ہو جاتا ہے۔

## آیات ۱۲۶ تا ۱۲۸

### صبر اور تقویٰ کی اہمیت

ان آیات میں فرمایا گیا کہ اگر تم زیادتی کا بدلہ لو تو صرف اُسی قدر لو جس قدر تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ البتہ اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بلاشبہ صبر اور استقامت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جو لوگ صبر اور تقویٰ کی روشن اختیار کرتے ہیں وہی نیکوکار ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی نصرت اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نصرت اور قربت عطا فرمائے۔ آمین!

## اللہ والے کون ہیں؟

اَهْلُ الْقُرْآنِ اَهْلُ اللَّهِ وَ خَاصَّتُهُ (سنن ابن ماجہ)

”قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اُس کے مقرر ہیں ہیں۔“

## خواتین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْنَةُ أَحَدٍ كُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بیہقی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ کچھ خواتین اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مرد جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے۔ کیا ہمارے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کسی کا اپنے گھر پر رکنا (مجاہد کے گھر کی حفاظت کے لیے) تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے برابر اجر تک پہنچا دے گا“۔

## خواتین کے لیے جنت کا راستہ

إِنَّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزُوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (ترمذی)  
”جو خاتون اس حال میں وفات پائی کہ اُس کا شوہر اُس سے راضی تھا تو وہ  
جنت میں داخل ہو گئی“۔

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرُهَا وَحَفِظَتْ فُرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فِيلَ لَهَا اذْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ ابْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (مسند احمد)  
”عورت جب بیٹھنے وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور (شرمنی امور میں) اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو اُس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے“۔

## دیگر شہروں میں دفاتر کے پتے

- **لاہور:** A-67، علام اقبال روڈ، گلہری شاہو۔ فون: 042(6366638-6316638) (042)
- فلیٹ نمبر 5، سینئر فلور، سلطان آر کیڈ فردوں مارکیٹ، گلبرک III لاہور۔ فون: 042(5845090)
- **تیمروگڑہ:** معرفت مستقیم الکٹریکس ریسٹ ہاؤس چوک، تیمروگڑہ، ضلع دریپاٹیں۔ فون: 0945(601337)
- **پشاور:** A-18، ناصر میشن، شعبہ بازار، ریلوے روڈ نمبر 2، پشاور  
فون: 02214495-2262902 (091) موبائل: 0300-5903211
- **مظفر آباد:** معرفت حارث جزل شور، بالا بیر بالمقابل تھانہ صدر۔ فون: 0992(504869)
- **اسلام آباد:** 1/1 فیض آباد ہاؤسنگ سوسائٹیز، فلاٹی اور برج 4/8-1 اسلام آباد۔ فون: 0333-5382262 (051) 4434438-4435430
- **گوجرانوالہ:** مرکز تنظیم اسلامی پوٹھوہار، عقب تھانہ نیو گلمہ منڈی، فضل حسین مارکیٹ گوجرانوالہ، ضلع راولپنڈی۔ موبائل: 0333-5133598 ای میل: [gujarkhan@tanzeem.org](mailto:gujarkhan@tanzeem.org)
- **گوجرانوالہ:** مرکز تنظیم اسلامی گوجرانوالہ، سوئی گیس لنک روڈ، ڈاکخانہ BISE، ملک پارک (مسجد نمرہ)  
فون: 03015519-3891695 (055) موبائل: 0300-7446250
- **عارف والا:** ڈپٹی چوک، 1-F، دوسری منزل، تھصیل عارف والا، ضلع پاک پتن۔ فون: 0457(830884)
- **فیصل آباد:** P/157، صادق مارکیٹ، ریلوے روڈ۔ فون: 2624290 (041)
- **جعنگ:** قرآن اکیڈمی لالزار کالونی نمبر 2، ٹوپ روڈ، جمنگ صدر۔ فون: 7628361 (047)
- **ملتان:** قرآن اکیڈمی، 25 آفسرز کالونی، ملتان۔ فون: 061(521070)
- مکان نمبر 1-D-403 فردوسیہ سٹریٹ، محمود آباد کالونی، خانیوال روڈ، ملتان فون: 8149212 (061)
- **ہارون آباد:** رمضان ایڈپٹی گلمہ منڈی، ہارون آباد ضلع بہاولکر۔ فون: 063(2251104)
- **سکھر:** B/3 پروفیسر زہا و سنگ سوسائٹی، شکار پور روڈ۔ فون: 071(5631074)
- موبائل: 0300-3119893 ای میل: [sukkur@tanzeem.org](mailto:sukkur@tanzeem.org)
- **حیدر آباد:** مرکز تنظیم اسلامی سندھ زیریں، بز فضل ہائیس پشاوری آئی کریم شاپ، مین قاسم آباد روڈ۔ فون: 0222(652957) موبائل: 0333-2608043 ای میل: [hyderabad@tanzeem.org](mailto:hyderabad@tanzeem.org)
- **کوئٹہ:** مرکز تنظیم اسلامی حلقة بلوچستان، بالائی منزل بالمقابل کوئٹہ سویٹس، منان چوک شارع اقبال۔ فون: 081(2842969) موبائل: 0334-2413598 ای میل: [quetta@tanzeem.org](mailto:quetta@tanzeem.org)